



Long-Term Care Home Update

Community Newsletter



ستمبر 2021

بیرونی پینل کی تنصیب بھی جاری ہے اور اس موسم خزاں میں مکمل ہو جائے گی۔ یہ ایک دلچسپ قدم ہے کیونکہ اس پینل ڈیزائن سے عمارت گھر کی طرح اور زیادہ نظر آئے گی۔

گھر کی ناقابل یقین پیش رفت کا بڑا حصہ، حکومت آئیٹیو کے ایکسپریٹڈ بلڈ پائلٹ پروگرام (Accelerated Build Pilot Program) کی وجہ سے ہے۔ صوبائی حکومت، پی سی ایل کنسٹرکشن، اور انفراسٹرکچر آئیٹیو کے ساتھ شراکت میں، نیا طویل مدتی نگہداشت کا گھر مربوط معیاری تعمیراتی نقطہ نظر، نظام الاوقات، ٹیکنالوجی کی اختراعات، تیزی سے خریداری، اور ہسپتال کی زمین کے استعمال کی بدولت عام تعمیر کے مقابلے میں جلد مکمل ہو جائے گا۔ 2022 کے اوائل میں مکمل ہونے کے بعد، یہ گھر ڈرہم کے علاقے میں 320 طویل مدتی نگہداشت کے بستر لائے گا اور بزرگوں کو ایک جدید ترین، دور حاضر کی، افزودہ جگہ فراہم کرے گا جسے گھر کہا جا سکے گا۔

ترقی کا مصروف ترین مہینہ

فی الحال ایجیکس پکرینگ ہسپتال (Ajax Pickering Hospital) کے زیر تعمیر نئے طویل مدتی نگہداشت کے گھر پر نو ماہ کے کام کا ہدف مکمل ہو گیا ہے اور ترقی تیز رفتاری سے جاری ہے۔ ستمبر ایک مصروف مہینہ رہا ہے کیونکہ تعمیراتی عملہ عمارت کو ایک آرام دہ جگہ اور مستقبل کے رہائشیوں، خاندانوں اور ٹیم کے ارکان کے لیے ایک محفوظ گھر میں تبدیل کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔

گھر کا ڈھانچہ اب مکمل ہو چکا ہے، اور ہم اپنی توجہ اندرونی اور بیرونی منصوبوں اور تکمیل پر مرکوز کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، لفٹ کی تنصیبات کا آغاز اس ماہ ہوا، اور عملہ گھر کی چھت کو لگانا جاری رکھے ہوئے ہے اور باہر سڑک کے نیٹ ورک پر کچھ کناروں پر کنکریٹ ڈال رہا ہے۔



26 ستمبر 2021 کو گھر کی چھت پر ایک نظر

نیا طویل مدتی نگہداشت کا گھر خبروں میں ڈیلی کنسٹرکشن نیوز نے "تکمیل (ٹاپنگ آف)" کی تقریب کے عنوان سے ایک کہانی میں "تکمیل (ٹاپنگ آف)" کو نمایاں کیا، ایچیکس یکرنگ ہسپتال میں "تکمیل (ٹاپنگ آف)" کی تقریب کا انعقاد۔

طویل مدتی نگہداشت کے گھر کی تیز رفتار پیشرفت کی
کیروٹن فین کے ساتھ ہیلتھ 180 (Health 180 with Carion)
Fenn کی ایک حالیہ قسط میں بھی نمائش کی گئی۔ عزت
مآب راڈ فلیس (Rod Phillips)، وزیر لانگ ٹرم کیئر اور ایم پی پی
برائے ایچیکس؛ سنتھیا ڈیوس (Cynthia Davis)، لیکرچ ہیلتھ کی
صدر اور سی ای او؛ اور مارک مرفی (Mark Murphy)، کیپٹل
پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ کے سینئر ڈائریکٹر، لیکرچ ہیلتھ سبھی
اس قسط میں شامل ہوئے۔

اس موسم خزاں میں آنے والے کام

موسم خزاں کی جانب دیکھتے ہوئے، گھر کی مستقل
بجلی کو تقویت ملے گی، گھر کے فرش کی تنصیب شروع
ہو جائے گی، اور اندرونی دیواروں کو پینٹ کی تہ لگے گی۔
جنوبی کرین اکتوبر میں کچھ وقت تک استعمال ہوتی رہے
گی اور پھر اسے سے ہٹا دیا جائے گا۔

جیسے جیسے اندرونی کام آگے بڑھتا ہے، لیکرچ ہیلتھ کی
ٹیم کمیونٹی کو اپ ڈیٹ فراہم کرتی رہے گی جیسے
جیسے گھر کا اندرونی حصہ شکل اختیار کرتا جائے گا۔



طویل مدتی نگہداشت کی تازہ ترین معلومات کے لیے ہماری رہائشیوں کی ای میل فہرست میں شامل ہوں

اپنے ای میل ان باکس میں براہ راست اپ ڈیٹس وصول
کرنا چاہتی/چاہتے ہیں؟ اپنے نام اور ای میل ایڈریس پر
ای میل کے ذریعے ہماری ای میل AjaxLTC@lh.ca
کی فہرست میں شامل ہوں۔

آپ ہماری ویب سائٹ lakeridgehealth.on.ca پر جا
کر بھی اپ ڈیٹ رہ سکتی/سکتے ہیں۔ اگر آپ کے
کوئی سوالات یا خدشات ہیں تو براہ کرم -576-905
8711 ایکسٹینشن 34167 پر کال کریں یا
AjaxLTC@lh.ca پر ای میل کریں۔

آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی تلاش اور فالو کر
سکتے ہیں۔

"تکمیل (ٹاپنگ آف)" کا ایک تاریخی موقع

27 اگست کو لیکرچ ہیلتھ نے طویل مدتی نگہداشت کے گھر
کی چھٹی اور آخری منزل کی تکمیل کا جشن منانے کے لیے
"تکمیل (ٹاپنگ آف)" کی ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ "تکمیل (ٹاپنگ
آف)" عمارت کی جگہوں پر ایک روایت ہے جو اس بات کی
نشاندہی کرتی ہے کہ عمارت سب سے اونچے مقام پر پہنچ
گئی ہے۔

عزت مآب راڈ فلیس (Rod Phillips)، وزیر برائے طویل مدتی
نگہداشت اور ایم پی پی برائے ایچیکس؛ عزت مآب پیٹر بیتھلن
فلیوی (Peter Bethlenfalvy)، وزیر خزانہ اور ایم پی پی برائے
پکرینگ اکیسبرج (Pickering-Uxbridge)؛ اور لارن کو (Lorne Coe) ایم
پی پی برائے وٹبی (Whitby)، جنہوں نے اس کامیابی کا جشن
منانے کے لیے لیکرچ ہیلتھ، بشمول بورڈ چیئر شیرون کوچران
(Sharon Cochran)، انفراسٹرکچر انٹیریو، اور پی سی ایل
کنسٹرکشن کے رہنماؤں کے ساتھ اس کامیابی کو منانے کے
لیے شمولیت اختیار کی، کا بہت شکریہ۔ یہ تقریب لیکرچ ہیلتھ،
اس کے شراکت داروں، ٹیم کے اراکین اور پورے ڈرہم کے علاقے
کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے کیونکہ یہ اس بات کی نشاندہی
کرتا ہے کہ صوبے کو اشد درکار 30,000 نئے طویل مدتی
نگہداشت کے بستروں اور ڈرہم میں بزرگ افراد کے لیے 320
نئے بستروں کی فراہمی کے لیے انٹیریو ایک قدم آگے بڑھا رہا
ہے۔



وزیر فلیس ان سیکڑوں تعمیراتی کارکنوں کی یاد میں بارڈ بیٹ پر دستخط
کر رہے ہیں جنہوں نے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ لیکرچ ہیلتھ کی
صدر اور سی ای او سنتھیا ڈیوس دیکھ رہی ہیں۔



بائیں سے دائیں: ٹوڈ کریگن (Todd Craigen)، صدر، مشرقی کینیڈا، پی سی
ایل کنسٹرکٹرز کینیڈا انکارپوریشن؛ شیرون کوچران (Sharon Cochran)، چیئر،
بورڈ آف ٹرسٹیز، لیکرچ ہیلتھ؛ لورن کو (Lorne Coe)، ایم پی پی، وٹبی؛ پیٹر،
خزانہ کے وزیر؛ راڈ فلیس، طویل مدتی نگہداشت کے وزیر؛ اور سنتھیا ڈیوس،
صدر اور سی ای او، لیکرچ ہیلتھ ایچیکس پکرینگ ہسپتال میں طویل مدتی
نگہداشت کے گھر کے سامنے "تکمیل (ٹاپنگ آف)" کی تقریب میں۔